



جس نہ لہسن یا پیاز کھایا، و ہم سے دور رہو - یا آپ ﷺ میں بیٹھا فرمایا : ہماری مسجد سے دور رہو اور اپنے گھر میں بیٹھا رہو

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے لہسن یا پیاز کھایا، و ہم سے دور رہو - یا آپ ﷺ میں بیٹھا فرمایا : ہماری مسجد سے دور رہو اور اپنے گھر میں بیٹھا رہو" آپ ﷺ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی، جس میں کچھ سبزیاں تھیں آپ ﷺ کو ان کی بو آئی، تو ان کے بارے میں پوچھا آپ ﷺ کو اس میں موجود سبزیوں کے بارے میں بتایا گیا اس پر آپ ﷺ فرمایا : اس میں کسی صحابی کے قریب کر دو دراصل وہ صحابی آپ کے ساتھ تھے جب اس صحابی نے (جنہیں یہ سبزی دی گئی تھی) اسے دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانے کو ناپسند کیا اس پر آپ ﷺ فرمایا : "تم کھالو کیوں کہ میں اس ذات سے مناجات کرتا ہوں، جس سے تم نہیں کرتے" مسلم کی ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "جس نے یہ سبزی یعنی لہسن کھائی ہو - ایک بار فرمایا : جس نے پیاز، لہسن یا گندنا کھائی ہو، و ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیوں کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو، جس نے پیاز یا لہسن کھائی ہو، مسجد آنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ ان دونوں چیزوں کی بدبو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے والے دوسرے بھائیوں کی اذیت کا باعث نہ بنے۔ یہ ممانعت دراصل مسجد آنے کی تنزیہی ممانعت ہے ان دونوں چیزوں کو کھانے کی ممانعت نہیں کیوں کہ ان دونوں چیزوں کا کھانا مباح ہے ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبزیوں کی ایک ہانڈی لائی گئی لیکن جب آپ ﷺ نے ان کے اندر بو محسوس کی اور بتایا گیا کہ اس میں کیا ہے، تو اسے خود کھانے کی بجائے اپنے ایک ساتھی کی جانب بڑھا دیا جب انہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسے کھانا پسند نہیں کیا، تو یہ دیکھ کر آپ ﷺ فرمایا : تم کھاؤ مجھے کھانے سے گریز اس لیے کہ میں وحی لے کر آئے والے فرشتوں سے بات کرتا ہوں آپ ﷺ نے بتایا کہ فرشتوں کو بھی بدبودار چیزوں سے اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، جس طرح انسانوں کو ہوتی ہے

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/4850>